



سوال

(769) پھوٹی عمر سے کچھ بری عادات میں گر چکا ہوں

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جناب میری عمر تقریباً پچیس سال ہے اور میں تقریباً بہت پھوٹی عمر سے کچھ بری عادات میں گر چکا ہوں جن سے پھٹکارا چاہتا ہوں لیکن باوجود کئی بار کوشش کے میں ان بری عادتوں کو پھوٹی نہیں سکا۔ تقریباً سات سال کی عمر میں مجھے جلق اور اغلام کی عادت شروع ہوئی تھی اور بڑھتی ہی گئی اور پچھلے ۶ سال سے میں اس کوشش میں ہوں کہ ان عادتوں کو پھوٹی دوں۔ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں کہ میں ہدایت کے رستے پر آ جاؤں اور اپنی توبہ پر قائم رہ سکوں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اولاً تو آپ اس جرم کی سزا جو اللہ تعالیٰ نے لوط جواب کی قوم کو دی اسے ہمیشہ دل دماغ میں مستحضر رکھیں۔ ثانیاً اس جرم کی جو سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی اسے بھی ہمیشہ ذہن میں یاد رکھیں ثانیاً توبہ پر استقامت فرمائیں اور مندرجہ ذیل دعا کثرت سے پڑھتے رہا کریں۔ ”یا مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلٰی دِينِكَ“ 2 نیز صبح ہر روز ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَزَائِرُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ 3 کم از کم ایک سو مرتبہ ضرور پڑھا کریں آپ اپنی توبہ پر قائم رہیں گے اور اس جرم سے بچ جائیں گے ان شاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ
۱۱/۱۲/۱۴۱۸ھ

[ترمذی - ابواب القدر - باب ماجاء ان القلوب بین اصبعی الرحمن ابواب الدعوات ترمذی المجلد الثانی ص ۱۹۲] 3 [بخاری - کتاب الدعوات - باب فضل التخليل]

قرآن وحدیث کی روشنی میں احکام ومسائل

جلد 01 ص 496

محدث فتویٰ